



SSI (سیٹلمنٹ سروسز انٹرنیشنل) معلومات، رابطوں اور اہلیت کا فروغ (ILC)

مدد فراہم کرتے ہوئے، کمیونٹیوں کو اختیار دلاتے ہوئے



SSI
**Information, Linkages
and Capacity Building (ILC)**

Providing support, empowering communities

Delivering the NDIS in your community

Urdu

ILC کا مقصد سب کو شامل رکھنے والی کمیونٹیاں بنانا ہے اور معذور لوگوں کو ان کی کمیونٹی میں امدادی نیٹ ورکس سے رابطے میں لانا ہے۔

لوکل ایریا کوآرڈینیٹر (LAC) کی حیثیت سے SSI 7 سے 64 سال عمر کے لوگوں کو National Disability Insurance Scheme (معذوروں کے لیے قومی انشورنس سکیم- NDIS) کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں دوسری خدمات اور مدد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔

2014 سے SSI معذور لوگوں، ان کے گھرانوں اور سنبھالنے والوں کو Ability Links اور IgniteAbility® Small Business Start-ups (چھوٹے کاروباروں کے آغاز کے لیے مدد) جیسے کمیونٹی میں دستیاب کئی پروگراموں کے ذریعے سہارا فراہم کر رہا ہے۔ ہم پورے نیو ساؤتھ ویلز میں اپنے عملے اور پارٹنرس (سکیم سے استفادہ کرنے والے افراد) کی مہارت اور مقامی کمیونٹیوں میں ان کے روابط کے ذریعے معذوروں کے لیے خدمات فراہم کرنے کا وسیع علم رکھتے ہیں۔

چاہے کوئی شخص NDIS کی مدد لینے کے لیے اہل ہو یا نہ ہو، SSI کے LAC پرووائیڈرز پارٹنرس، ان کے گھرانوں اور سنبھالنے والوں کی مہارتیں اور علم بڑھانے کے لیے مدد دے سکتے ہیں تاکہ وہ عام معاشرے کی خدمات اور کمیونٹیوں کی مدد کرنے والے نیٹ ورکس سے جڑ سکیں۔



لوگوں کو معلومات اور کمیونٹی میں مدد سے جوڑنا

ایک ILC کنسلٹنٹ افراد کو NDIS حاصل کرنے میں اور NDIS میٹنگوں کے لیے تیاری کرنے میں مدد دے گا جس کے لیے وہ انہیں انفرادی اہداف کو شناخت کرنے اور ان کی مقامی کمیونٹی میں دستیاب سہاروں کے بارے میں سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔

SSI کے ILC کنسلٹنٹس مقامی علاقے کا بھرپور علم رکھتے ہیں اور کمیونٹیوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے انہیں معذور لوگوں کا خیرمقدم کرنے والی اور شامل کرنے والی کمیونٹیاں بننے میں مدد دیتے ہیں تاکہ وہ معذور لوگوں کو ان کے اہداف حاصل کرنے میں مدد دیں۔

ہمارے ILC کنسلٹنٹس NDIS اور LAC کے بارے میں آن لائن یا روبرو معلوماتی سیشن پیش کرتے ہیں۔ یہ اہلیت بڑھانے کی ورکشاپس کا انتظام بھی کرتے ہیں تاکہ پارٹیسپینٹس، ان کے گھرانوں اور سنبھالنے والوں کو ان کے NDIS پلانز اور فنڈنگ کے بارے میں زیادہ معلومات کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے لیے آگہی اور اختیار دلائیں۔

ایک ILC کنسلٹنٹ کمیونٹی میں لوگوں کو اس سلسلے میں مدد دے گا:



حالیہ امدادی نیٹ ورکس کو بڑھانا اور نئے نیٹ ورکس بنانا



کمیونٹی کی زندگی میں شریک ہونا



NDIS کو سمجھنا اور حاصل کرنا



اہداف شناخت کرنا اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا



یہ سمجھنا کہ NDIS دوسری سرکاری خدمات کے ساتھ کیسے کام کرتی ہے

کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟

SSI کی لوکل ایریا کوآرڈینیشن کی خدمات اور شرکت کے مواقع کے متعلق مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی www.ssi.org.au/services/local-area-coordination دیکھیں

یا

اس طرح SSI Intake Team سے رابطہ کریں:

1800 960 975 پر کال کریں
صبح 10 بجے سے شام 4 بجے، پیر تا جمعہ



یا

عام سوالات کے لیے lac@ssi.org.au پر ای میل کریں
اپنی رائے دینے کے لیے lacfeedback@ssi.org.au پر ای میل کریں



ndis

SSI
settlementservices
international

Delivering the NDIS in your community